

Tveita سکول میں تعلیمی سال 2019-2020 میں سکول شروع کرنے والے اور پہلی جماعت کے طالبعلموں کے سرپرستوں کیلئے معلومات
اوسلو، 16.04.2020

تعلیمی سال 2020-2021 میں پہلی اور دوسری جماعت کے لیے **Aktivitetsskolen/AKS** (ایکٹویتی سکول) میں مفت جزوقتی سیٹ کے بارے میں معلومات

Tveita skole میں پہلی اور دوسری جماعت میں داخل ہونے والے تمام بچوں کو تعلیمی سال 2020-2021 میں AKS (ایکٹویتی سکول) میں مفت جزوقتی سیٹ کی پیشکش مل رہی ہے۔ یہ پیشکش اگست 2020 سے دستیاب کیلئے ہے۔

AKS میں مفت جزوقتی سیٹ سے کیا مراد ہے؟

- 12 گھنٹوں کی پیشکش کو روزانہ سکول سے چھٹی کے بعد برابر طور پر تقسیم کیا جائے گا، اس طرح اس سروس کی منصوبہ بندی اور بہتر معیار کے اچھے امکانات مہیا ہوتے ہیں
- سکول کی تعطیلات (خزاں اور سردیوں کی تعطیلات، کرسمس اور ایسٹر کی تعطیلات، اور جولائی کے علاوہ جب AKS بند ہوتا ہے، گرمیوں کی تعطیلات کے ہر ہفتے) میں فی ہفتہ دو دن۔
- تعلیمی سال میں پلاننگ کے دنوں میں/ سرکاری تعطیل کے بعد آنے والی سکول کی چھٹی کے دن طالبعلم AKS میں آدھا دن رہ سکتا ہے۔ (سکول کے پلاننگ کے دنوں میں AKS سال میں دو دن تک بند رہ سکتا ہے)

اگر آپ چاہتے ہوں کہ بچہ تعلیم میں معاون تمام سرگرمیوں میں شریک ہو تو آپ رعایتی فیس پر کل وقتی سیٹ خریدنے کی درخواست دے سکتے ہیں۔

رعایتی فیس پر کل وقتی سیٹ

کل وقتی سیٹ کی فیس سرپرستوں کی آمدنی پر منحصر ہوتی ہے اور ماہوار 242 کرونر اور 1029 کرونر کے درمیان ہوتی ہے۔ کل وقتی سیٹ رکھنے والا بچہ سکول کے اوقات سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور سکول کی تعطیلات (جولائی کے علاوہ) کے تمام دنوں میں AKS میں رہ سکتا ہے۔

زیادہ شرکت اور زبان کی بہتر اہلیت

AKS سیکھنے کیلئے ایک متبادل ماحول ہے جو کھیل اور تربیت کے ذریعے بچوں کی تعلیمی اور سوشل نشوونما کو تقویت دے گا۔ سکول کے ساتھ تعاون رکھتے ہوئے AKS ایک جامع پیشکش فراہم کرے گا۔ اس سروس کی بنیاد AKS کے لیے فریم ورک پلان اور AKS ضابطہ نیز گھر اور سکول کے باہمی تعاون کے لیے گائیڈ پر ہے۔ AKS میں مفت جزوقتی شرکت کا مقصد یہ ہے:

- AKS میں شرکت بڑھائی جائے
- طالبعلموں کی زبان کی اہلیت بہتر بنائی جائے
- AKS کا معیار بلند کیا جائے اور سب کیلئے مساوی پیشکش یقینی بنائی جائے

AKS میں داخلے کی درخواست اس طرح دی جاتی ہے

AKS میں بچوں کے نام لکھوانے کیلئے سرپرستوں کو بلدیہ اوسلو کی ویب سائٹ پر موجود پورٹل استعمال کرنا ہوگا:
www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen

اس بارے میں مزید معلومات کیلئے کہ کونسے سکول AKS میں مفت جزوقتی سیٹ فراہم کرتے ہیں، دیکھیں:
<https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltidsplass/>

اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سکول سے رابطہ کریں۔

نیک تمناؤں کے ساتھ **Aktivitetsskolen Tveita**